



سوال

(494) ”سحری میں برکت ہے“ کا مفہوم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ”سحری کھایا کرو، بلاشبہ سحری میں برکت ہے۔“ (صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب برکتہ السحور من غیرہما، حدیث: 1923 و صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل السحور و تاکید استجابہ و استحباب تاخیرہ، حدیث: 1095 و سنن الترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی فضل السحور، حدیث: 708-) سحری میں برکت ہے۔ ”کا کیا مفہوم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سحری کرنے میں دو طرح کی برکتیں ہیں۔ ایک شرعی، دوسری بدنی۔ شرعی برکت یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے آپ کی اقتدا کرتا ہے، اور بدنی برکت یہ ہے کہ انسان کو غذا مل جاتی ہے اور روزہ پورا کرنے میں آسانی رہتی ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 376

محدث فتویٰ